



## ۹۔ تجارت



### عمل کیجیے۔

ہمیں اپنی روزمرہ زندگی میں مختلف ضروریات درپیش ہوتی ہیں۔ ان ضروریات کی تکمیل کے لیے ہم مختلف اشیا خریدتے ہیں۔ خریدتے ہیں یعنی طلب کرتے ہیں۔ ان اشیا کی طلب کی تکمیل کرنے کے لیے اشیا تیار کی جاتی ہیں۔ پیدا کار یا **پیدا کنڈہ** ان اشیا کو فراہم کرتا ہے یعنی انھیں تھوک یوپاریوں کو بینپتا ہے۔ اس طرح ایک دوسرے کی ضروریات پوری کرنے کے لیے اشیا کی خرید و فروخت کی جاتی ہے۔ اشیا خریدنے والے **گاہک یا صارف** کہلاتے ہیں۔ اشیا بنانے والے صنعت کار (پیدا کار) اور اشیا فروخت کرنے والے تاجر (فروخت کار) کہلاتے ہیں۔ گاہک اور تاجر اشیا کی خرید و فروخت کرتے ہیں۔ اسے تجارت کہتے ہیں۔



**شکل ۹ء: تجارت کا تصور**

تجارت ایک اہم معاشری سرگرمی ہے۔ معاشرے کے لوگوں کی معاشری زندگی ایک دوسرے پر محضر ہوتی ہے۔ کوئی بھی علاقہ یا ملک خود کیفیل نہیں ہوتا۔ عوام کی ضروریات کی تکمیل کے لیے دو علاقوں یا ملکوں کے درمیان تجارت ضروری ہوتی ہے۔ ہر علاقے کی جغرافیائی حالت مختلف ہوتی ہے جس کی وجہ سے ہر علاقے یا ملک میں مختلف اشیا تیار ہوتی ہیں۔

جس جگہ کسی شے کی قلت ہوتی ہے وہاں اس کی طلب ہوتی ہے۔ جس جگہ کسی شے کی پیداوار اضافی ہوتی ہے اس جگہ سے وہ شے دیگر جگہوں کو فراہم کی جاتی ہے۔ اس طرح اضافی پیداوار والے ملکوں سے کسی شے کی فراہمی ضرورت مدنظر ملک کو اس کی طلب کے مطابق ہوتی ہے۔ جموں اور کشمیر میں پیدا ہونے والا سب طلب رکھنے والی بھارت کی دیگر ریاستوں میں بھیجی جاتی ہے۔

مندرجہ ذیل معلومات حاصل کیجیے۔

- روزمرہ استعمال کی جانے والی پانچ گھریلو اشیا کی فہرست بنائیے۔
- یہ اشیا کون استعمال کرتا ہے؟
- اس کے سامنے یہ لکھیے کہ یہ اشیا آپ کو کون فراہم کرتا ہے۔
- فہرست میں درج اشیا آپ کہاں سے خریدتے ہیں؟
- خرید و فروخت کے عمل کو آپ کیا کہیں گے؟
- اشیا فروخت کرنے والا دکاندار اشیا کے بدлے ہم سے کیا لیتا ہے؟
- آپ نے یہ اشیا جہاں سے خریدی ہیں، اس جگہ یہ اشیا کہاں سے آئیں اور ان کا بنیادی ذریعہ کیا ہے؟
- معلومات حاصل کیجیے اور اسے فہرست میں درج اشیا کے سامنے لکھیے۔ حاصل شدہ معلومات کے بارے میں جماعت میں گفتگو کیجیے۔

### جغرافیائی وضاحت

مندرجہ بالا حاصل کردہ معلومات کی بنا پر آپ سمجھ سکیں گے کہ ہم اپنی ضرورت کی اشیا قریبی دکانوں، بازار یا مبوال سے خریدتے ہیں۔ اکثر و بیشتر یہ تمام فروخت کنڈگان خود یہ اشیا تیار نہیں کرتے۔ وہ انھیں کہیں اور سے لاتے ہیں۔ ایسا بھی نہیں کہ یہ تمام اشیا ہمارے آس پاس ہی تیار ہوتی ہیں۔ یہ اشیا دور دراز کے مقامات پر تیار ہوتی ہیں۔ **تھوک بازار**، کارخانے، زرعی پیداوار کی **بازار کمپنی** جیسے مقامات سے یہ اشیا سب سے پہلے خرده فروشوں تک آتی ہیں اور پھر ہم تک پہنچتی ہیں۔

### تلash کیجیے۔

جس طرح کوئی شے دیگر مقامات سے آپ تک پہنچتی ہے اسی طرح آپ کے گاؤں یا شہر کی کوئی مخصوص شے کہاں کہاں بھیجی جاتی ہے؟

ہے۔ اس کے بد لے میں ہمیں کیا ملتا ہے؟

ڈاکٹر اور وکیل سے ملنے والے مشورے اور صلاح کے لیے فیس دینا پڑتی ہے۔ اس کے بد لے میں ہمیں کون سی چیز ملتی ہے؟

سینما ہال میں جانے کے لیے آپ کو ٹکٹ خریدنا پڑتا ہے۔ ایسا کیوں؟

آپ جام سے اپنے بال کٹوانے کے بد لے اسے اجرت دیتے ہیں۔ ایسا کیوں؟

### جغرافیائی وضاحت

درج بالا مثالوں میں جب دکھائی دینے والی اشیا کی خرید و فروخت ہوتی ہے تو اسے **مرئی تجارت** کہتے ہیں لیکن جب خدمات کا تبادلہ ہوتا ہے تو اسے **غیر مرئی کاروبار** کہتے ہیں۔



شکل ۹۶۲ (الف) : مرئی تجارت



شکل ۹۶۲ (ب) : غیر مرئی تجارت

### کیا آپ جانتے ہیں؟

تجارت کا تصور زمانہ قدیم سے پایا جاتا ہے۔ زمانہ قدیم اور عہد سلطی میں تجارت کے لیے اشیا کے تبادلے کا نظام (Barter System) راجح تھا۔ اس نظام کے تحت اشیا کے بد لے اشیا کا لین دین ہوا کرتا تھا۔ مزدوری کے بد لے انداج یا انداج کے بد لے تیل، نمک، شہد یا دودھ وغیرہ اشیا کا تبادلہ ہوا کرتا تھا۔ اس تجارت میں روپیوں پیسوں کا استعمال نہیں ہوتا تھا۔ گھر کے پرانے کپڑوں کے بد لے برتن اور ڈبے دینے والے دکاندار ہمیں آج بھی دکھائی دیتے ہیں۔ لیکن اس قسم کے لین دین میں اشیا کی قیمت کے تعین میں دشواری پیش آتی ہے۔ اس زمانے میں بھی یہی مسئلہ پیش آتا تھا۔ اس مسئلے کے حل کے طور پر روپے پیسوں کا رواج شروع ہوا۔ جدید دنیا میں روپیوں کے ذریعے ہی کاروبار ہوتا ہے لیکن آج بھی دور دراز علاقوں اور ادی واسی قبائل میں قلیل پیانا پر ہی اشیا کے تبادلے کا نظام راجح ہے۔



اشیا کے تبادلے کا نظام

### بتائیے تو بھلا!


ہم دیکھ چکے ہیں کہ تجارت میں اشیا کی خرید و فروخت ہوتی ہے لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ اشیا کا لین دین (تبادلہ) نہ ہوتے ہوئے بھی تجارت یا کاروبار ہوتا ہے؟

سبزی والے کو پیسے دینے پر سبزی ملتی ہے۔

کتاب کی قیمت ادا کرنے پر کتاب ملتی ہے۔

کسی گاڑی میں سفر کرنے کے بد لے اس کا کرایہ ادا کرنا پڑتا

## تجارت کی قسمیں:



ہوتی ہے۔ داخلی تجارت کے فروغ پر ملک کی ترقی کا انحصار ہوتا ہے۔ معاشری ترقی زیادہ ہو تو تجارت میں بھی اضافہ ہوتا ہے یعنی ثبت تعلق ہوتا ہے۔

**• بین الاقوامی تجارت :** اشیا اور خدمات کے ایک ملک سے دوسرے ملک میں ہونے والے تبادلے کو بین الاقوامی تجارت کہتے ہیں۔ کچھ ملکوں میں چند مخصوص اشیا کی اضافی پیداوار ہوتی ہے۔ یہ اشیا طلب کے حامل ملکوں کو روانہ کی جاتی ہیں۔ یہیں سے بین الاقوامی تجارت کا آغاز ہوتا ہے۔

بین الاقوامی تجارت جب دو ملکوں کے درمیان ہوتی ہے تو اسے **دو رخی تجارت** کہا جاتا ہے۔ جب بین الاقوامی تجارت دو سے زیادہ ملکوں کے درمیان ہوتی ہے تو اسے **کثیر رخی تجارت** کہا جاتا ہے۔

چند ممالک میں ان کی ضرورت سے زیادہ مال تیار ہوتا ہے مثلاً سعودی عرب اور کویت جیسے ممالک میں پیدا ہونے والا معدنی تیل، کنیڈ اور یا ریاست ہائے متحده میں پیدا ہونے والا گیوں۔ یہ مال طلب کے حامل ممالک کو فراہم کیا جاتا ہے۔

**• برآمدات و درآمدات:** برآمدات اور درآمدات بین الاقوامی تجارت کی بنیادی سرگرمیاں ہیں۔ جب کوئی ملک اپنے یہاں قلت میں پائی جانے والی شے یا خدمات کو کسی دوسرے ملک سے خریدتا ہے تو اسے درآمد کہتے ہیں۔ جب کسی ملک میں اضافی پیداوار ہوتی ہے اور وہ اس پیداوار کو ضرورت مند ممالک کو بیچتا ہے تو اسے برآمد کہتے ہیں۔



کسی ایک ماہی سال کے لیے بھارت اور جاپان کے درمیان ہونے والی اہم اشیا کی درآمد اور برآمد اور ان کی قیمتوں کے بارے میں معلومات حاصل کیجیے اور دوپیساً گراف تحریر کیجیے۔

## تجارتی توازن:

کسی ملک میں ایک مخصوص مدت کے دوران ہونے والی درآمدات اور برآمدات کے درمیان فرق کو تجارتی توازن کہتے ہیں۔ تجارتی توازن کی مندرجہ ذیل اقسام ہیں۔

**(۱) اشیا کی تعداد کے مطابق:** اشیا کی تعداد کے مطابق

تھوک اور خرده قسم کی تجارت ہوتی ہے۔

**• تھوک تجارت :** تاجر بڑے پیمانے پر مال خریدتے ہیں۔ یہ مال براہ راست پیدا کار سے خریدا جاتا ہے۔ خریدے ہوئے مال کو بڑے پیمانے پر **خرده فروشوں** (تاجروں) کو بیچا جاتا ہے۔ اسے تھوک تجارت کہتے ہیں۔ کارخانے کار، کسانوں وغیرہ سے تھوک تاجر بڑے پیمانے پر مال خریدتے ہیں مثلاً آم یا سنتروں کے باغوں کے مالک اپنی تمام تر فصل تھوک تاجروں کو بیچ دیتے ہیں۔

**• خرده تجارت:** تھوک تاجروں سے مال خرید کر براہ راست گاہکوں کو مال فروخت کیا جاتا ہے۔ اسے **خرده تجارت** کہتے ہیں۔ اس تجارت میں خریدی جانے والی اشیا کی تعداد کم ہوتی ہے مثلاً خرده فروش دکاندار، منڈی کے سبزی فروش وغیرہ۔

**(۲) علاقائی وسعت کے مطابق :** مال کی خرید و فروخت مختلف سطحوں پر ہوتی ہے جس کے مطابق مقامی، علاقائی، قومی اور بین الاقوامی تجارت کی اقسام ہوتی ہیں۔

**• داخلی تجارت (ملکی تجارت) :** ایک ہی ملک کے مختلف علاقوں یا ریاستوں کے مابین ہونے والی تجارت کو داخلی تجارت کہتے ہیں۔ ملک کا رقبہ، وسائل کی دستیابی، تنوع اور تقسیم کے اثرات خصوصی طور پر داخلی تجارت پر مرتب ہوتے ہیں۔ آبادی کا تناسب، نقل و حمل، خبر سانی کی سہولت، لوگوں کے طرزِ رہائش، فروخت کاری کا نظام وغیرہ بھی داخلی تجارت پر اثر انداز ہوتے ہیں۔ بھارت میں جغرافیائی عوامل کے تنوع اور کثیر آبادی کی وجہ سے داخلی تجارت بڑے پیمانے پر

## بین الاقوامی تجارتی تنظیمیں:

بین الاقوامی تجارتی سرگرمیاں مقامی تجارت کے مقابلے میں پیچیدہ ہوتی ہیں۔ بین الاقوامی تجارت دو یا دو سے زیادہ ممالک کے درمیان ہوتی ہے۔ اس تجارت پر ملک کی معیشت، سرکاری پالیسی، بازار، قوانین، عدیله، کرنی اور زبان جیسے عوامل اثر انداز ہوتے ہیں۔ ممالک کے باہمی سیاسی تعلقات بھی بین الاقوامی تجارت پر اثر انداز ہوتے ہیں۔ کبھی کبھی تجارتی سرگرمیوں میں رکاوٹ کی وجہ سے باہمی تعلقات اور ہم آہنگی پر منفی اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ ان سے بچنے کے لیے بین الاقوامی معاشی اور تجارتی تنظیموں کے قیام کی ضرورت پیش آئی۔ مختلف معاشی سطحوں کے حامل ممالک میں ہونے والی تجارتی سرگرمیوں کو آسان اور بمنی بر انصاف رکھنے کے لیے کچھ بین الاقوامی معاشی تنظیموں کا قیام عمل میں آیا۔ یہ تجارتی تنظیمیں بین الاقوامی تجارت میں اضافے اور سہولت کاری کے لیے کام کرتی ہیں۔ ان میں سے کچھ معاشی تنظیموں کی معلومات اگلے صفحے پر جدول میں دی گئی ہے۔



آسیان کا مرکزی دفتر




عالی تجارتی تنظیم کا صدر دفتر



فرض کیجیے آپ بیوپاری ہیں اور آپ اپنی تیار کردہ اشیا ملک کی دوسری ریاستوں میں پہنچا چاہتے ہیں۔ اسی طرح آپ ان اشیا کو دنیا کے دوسرے ممالک میں بھی فروخت کرنا چاہتے ہیں۔


- ان میں سے کون سی تجارت آسان ہے؟
- کون سی تجارت پر تحدید عائد ہو سکتی ہے؟
- اس کی وجوہات تلاش کیجیے۔

- جب برآمدات کی قیمت درآمدات کی قیمت سے زیادہ ہوتی ہے تو اسے 'موافقت تجارتی توازن' کہتے ہیں۔




شکل ۹ء۳(الف): موافق تجارتی توازن

- جب درآمدات کی قیمت برآمدات کی قیمت سے زیادہ ہوتی ہے تو اسے 'غیر موافق تجارتی توازن' کہتے ہیں۔



شکل ۹ء۳(ب): غیر موافق تجارتی توازن


- جب برآمدات اور درآمدات کی قیمت تقریباً یکساں ہوتی ہے تو اسے 'متوازن تجارت' کہتے ہیں۔



شکل ۹ء۳(ج): متوازن تجارت

## چند معاشری عالمی تنظیمیں

بین الاقوامی تنظیم کا نام	رکن ممالک کی تعداد اور نشان امتیاز	صدر دفتر (ملک)	مقاصد / ذمہ داریاں
عالمی تجارتی تنظیم - WTO - (World Trade Organization)	۱۶۳	جنیوا (سوئیٹزرلینڈ)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• بین الاقوامی تجارتی امور کے لیے پیٹ فارم فراہم کرنا۔</li> <li>• تجارتی تازعات کو حل کرنا۔</li> <li>• ملکوں کی تجارتی پالیسیوں پر نظر رکھنا۔</li> <li>• ترقی پذیر ممالک کو تکمیلی تعاون اور تربیت فراہم کرنا۔</li> </ul>
یورپی یونین - EU - (European Union)	۲۸	بروسیز (بلجیم)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• اس تنظیم نے یورپ کے مختلف رکن ممالک میں مشترکہ بازار کے نظم کو فروغ دیا ہے۔</li> <li>• یورپ میں اشیا، خدمات اور سرمایہ کاری کے آزادانہ استعمال کو مقصد بنایا۔</li> <li>• اس تنظیم کے تمام ارکان نے لین دین کے لیے تمام اشیا پر ٹیکس معاف کیا ہے۔</li> <li>• رکن ممالک کے لیے یورو کرنی طے کی گئی ہے۔</li> </ul>
OPEC - (Organization of Petroleum Exporting Countries)	۸	ویانا (آسٹریا)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• معدنی تیل کی بین الاقوامی تجارت پر کنٹرول رکھنا۔</li> <li>• رکن ممالک میں تیل کی پیداوار اور قیتوں کی نگرانی کرنا۔</li> <li>• تیل کی درآمدات میں مطابقت رکھنا۔</li> </ul>
SAARC - (South Asian Association for Regional Co-operation)	۸	کٹھمہڈو (نیپال)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• جنوبی ایشیائی ممالک کے یکساں مسائل جان کر ان کا اطمینان بخشنے کا حل نکالنا۔</li> <li>• رکن ممالک میں سماجی بہبود، معیار زندگی میں بہتری اور علاقائی تعاون کو فروغ دینا۔</li> <li>• جنوبی ایشیا میں بدانشی و بے چینی کو دور کرنا۔</li> </ul>
آسیان - (Association of South-East Asian Nations)	۱۰	جاکارتا (انڈونیشیا)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• جنوب مشرقی ایشیائی ممالک میں معاشری ترقی کے ساتھ سماجی اور ثقافتی ہم آہنگی کو فروغ دینا۔</li> <li>• علاقائی امن و سلامتی کی حوصلہ افزائی کرنا۔</li> <li>• رکن ممالک کو مزید تجارت کے لیے ٹیکس میں مراعات دینا۔</li> </ul>
APEC - (Asia-Pacific Economic Co-operation)	۲۱	سنگاپور	<ul style="list-style-type: none"> <li>• ایشیا - بحر الکابل کے علاقے میں آزادانہ تجارت اور معاشری تعاون کو فروغ دینا۔</li> <li>• رکن ممالک میں علاقائی اور تکمیلی تعاون کو فروغ دینا۔</li> </ul>
BRICS - (Brazil, Russia, India, China and South Africa)	۵	شنجھائی (چین)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• گروپ میں شامل ممالک کی معيشت میں اضافے کے لیے فنڈ فراہم کرنا۔</li> <li>• باہمی معاشری تعاون کو فروغ دینا۔</li> <li>• معاشری تحفظ کو مستحکم کرنا۔</li> </ul>



شکل ۹ء۲: نقشے کا خاک

ر ا بط کیا۔ اس کی زرعی پیداوار کے معیار کو دیکھتے ہوئے سپر مارکیٹ نے اس پیداوار کی تشویح کی اور اسے فروخت کے لیے پیش کیا۔ آج احمد بابا کے کھیت کی یہ پیداوار پہلے سے زیادہ قیمت میں فروخت ہوتی ہے۔

❖ احمد بابا کے کھیت کی پیداوار کو کس وجہ سے زیادہ قیمت میں؟

❖ اس کے لیے احمد بابا کے بیٹے کو کیا کرنا پڑتا؟

❖ اپنے آس پاس کے کسانوں کی زرعی پیداوار کو زیادہ قیمت دلوانے کے لیے آپ کیا کریں گے؟

### جغرافیائی وضاحت

کسی بھی مال کی مناسب پیش کش کو اہمیت حاصل ہوتی ہے۔ مال کی قیمت اس کے معیار، درجہ بندی اور اس کی پیش کش کی بنیاد پر طے ہوتی ہے۔ احمد بابا کی زرعی پیداوار سے متعلق ان باتوں کی کمی تھی جسے ان کے بیٹے نے بروقت محسوس کیا اور اس میں تبدیلیاں کیں۔ اسی طرح صنعتی مال یا زرعی پیداوار میں متعلقہ تباہ اختیار کرنے پر گاہک کی نظر میں مال کی وقعت بڑھ جاتی ہے جس کی وجہ سے مال کی مناسب قیمت ملتی ہے اور ایسے مال کی طلب میں اضافہ بھی ہو جاتا ہے۔

درج ذیل تنظیموں کے رکن ممالک کے نام انٹرنیٹ کی مدد سے حاصل کیجیے۔ شکل ۹ء۲ کے خاکے میں ہر تنظیم کے مطابق رکن ممالک کو مختلف رنگ سے دکھائیے۔

- اوپیک (OPEC) رکن ممالک
- سارک (SAARC) رکن ممالک

### ذرا سوچیے!

☞ اگر تمام دنیا میں ایک ہی کرنی استعمال کی جائے تو کیا ہوگا؟

### فروخت کاری



احمد بابا اپنے کھیت میں بڑی محنت اور مشقت کر کے عمدہ قسم کی سبزیاں اور دیگر فصلیں اگاتے ہیں لیکن بازار میں انھیں اپنے مال کی مناسب قیمت حاصل نہیں ہو پاتی۔ کالج میں زیر تعلیم احمد بابا کے بیٹے نے یہ صورتحال دیکھی۔ اس نے سب سے پہلے پیداوار کو صاف کر کے اسے دیدہ زیب آرائشی کاغذ میں باندھا۔ پھر شہر کے سپر مارکیٹ سے



ہوئے دیکھ کر یا اس کا اشتہار دیکھ کر اس کے بارے میں تفہیش کر کے یا بازار میں اسے دیکھنے کے بعد یہ بات ذہن میں آتی ہے کہ یہ پیداوار ہمارے لیے فائدہ مند ہو سکتی ہے، اسی لیے اسے خریدا جاتا ہے۔ یہ سب فروخت کاری (Marketing) کی وجہ سے ممکن ہو پاتا ہے۔ مناسب فروخت کاری کی وجہ سے تجارت میں اضافہ ہوتا ہے۔

### فروخت کاری کی اہمیت:

جدید صنعتی سماجی ڈھانچا، عالم کاری، اشیا کے کافی تبادل اور فراہمی جیسے عوامل آج کی دنیا کی تجارتی تشکیل کرتے ہیں۔ اس پس منظر میں تجارت کے لیے فروخت کاری کا نظام نہایت اہمیت اختیار کر گیا ہے۔ فروخت کاری کے ذریعے منظم طریقے سے تجارت کو فروغ دیا جاسکتا ہے۔ پیداوار کو ایک ہی وقت میں بڑے پیمانے پر تقسیم کیا جاسکتا ہے اور اسے زیادہ سے زیادہ گاہکوں تک پہنچایا جاسکتا ہے۔ پیداوار کی قیمت فروخت میں بھی اضافہ ہو جاتا ہے۔ اسی طرح ناقص مال بازار سے واپس بلوایا جاسکتا ہے یعنی آج کے دور میں فروخت کاری تجارتی نظام کی ایک اہم بنیاد ہے۔

گاہک کو کسی شے کی ضرورت کا احساس دلانے والے اشتہارات بڑے پیمانے پر شائع کیے جاتے ہیں۔ اس کے مقاصد میں زیادہ سے زیادہ گاہکوں تک پہنچنا، انھیں پیداوار کی جانب متوجہ کرنا اور خریداری کے لیے راغب کرنا شامل ہیں۔


ذیل میں روزمرہ استعمال کی جانے والی چند گھریلو اشیا کی فہرست دی ہوئی ہے۔ ہر شے کے سامنے آپ جس کمپنی کی بنی شے استعمال کرتے ہیں، اس کا نام لکھیے۔

نمبر شمار	استعمال کی جانے والی شے	شے کا نام	کمپنی کا نام	معلومات کا ذریعہ
(۱)	دانٹ مانچھے کا پاؤڈر یا پیسٹ			
(۲)	چائے یا کافی پاؤڈر			
(۳)	نہانے کا صابن			
(۴)	بالوں کا تیل			
(۵)	بسکٹ			

آپ نے جس شے کے سامنے اس کا برائند لکھا ہے، اب یہ بتائیے کہ آپ کو یا آپ کے خاندان کے دیگر افراد کو ایسا کیوں لگا کہ اس برائند کی شے استعمال کرنا چاہیے؟ اس معلومات کا ذریعہ تحریر کیجیے۔ درج بالا سوالوں کے جوابوں کے مطابعے کے بعد آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ ہم جو اشیا استعمال کرتے ہیں ان کا معیار اہم ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ اس کی تشریف بھی ہم پر اثر انداز ہوتی ہے۔ ہر شخص کو ہر شے (پیداوار) کا علم نہیں ہوتا لیکن کسی دوسرے کو یہ شے استعمال کرتے



پیداوار سے صارف کو مصنوعات پہنچنے تک ایک غیر مرئی تسلسل ہوتا ہے۔ اس تسلسل میں شامل پیشہ و رانہ امور کی یکجائی کو فروخت کاری کہتے ہیں۔ مصنوعات کی قیمت، فروغ دہی، تشریفی مہم، اشتہار اور تقسیم فروخت کاری کے اہم اجزاء ہیں۔



کسی پیداوار کے اشتہار میں غلط، فریب کرانہ یا مبالغہ آمیز بیانات کے ذریعے گاہوں کو دھوکا دینا، مقابل کپنیوں کی خامیاں بتانا وغیرہ کی وجہ سے کئی دفعہ اشتہارات اپنا اعتبار کھو دیتے ہیں۔ اس لیے اشتہار بازی کے دوران ضابطوں پر عمل کرنا ضروری ہوتا ہے۔ گاہوں (صارفین) کے لیے بھی ایسے اشتہارات سے محظاٹ رہنا ضروری ہوتا ہے۔ اس مقصد کے لیے تحفظ صارفین قانون وضع کیا گیا ہے۔

گاہوں میں اپنی ضرورت پہچان کر مصنوعات کو مناسب قیمت پر خریدنے کا راجحان ضروری ہوتا ہے۔

اطلاعاتی تکنالوجی اور ذرا رائج ابلاغ کا فروخت کاری کے نظام پر بہت اثر ہوا ہے۔ اطلاعاتی تکنالوجی میں انقلاب کی وجہ سے ساری دنیا ایک بازار بن گئی ہے۔ انٹرنیٹ کے ذریعے دنیا کے مختلف ملکوں کی مصنوعات کے بارے میں بہ آسانی معلومات حاصل ہو جاتی ہے جس کی وجہ سے گاہک کوئی متبادل دستیاب ہو جاتے ہیں۔ انٹرنیٹ کی سہولت کی وجہ سے 'آن لائن ٹریڈنگ' اور 'ای-مارکیٹنگ'، جیسی تکنیکوں کا استعمال عام ہو گیا ہے۔

## مشق



- (ج) سیمہ نے اپنے کھیت کے انار آسٹریلیا برآمد کیے۔  
 (د) کاشف نے تھوک بازار سے اپنی دکان کے لیے ۱۰ تھیلے گیہوں اور ۵ تھیلے چاول خریدے۔
- سوال ۵۔ درج ذیل سوالوں کے مختصر جواب لکھیے۔**
- (الف) تجارت کی اقسام کی درجہ بندی دکھانے والی جدول بنائیے۔  
 (ب) تجارتی توازن کی اقسام میں فرق بتائیے۔  
 (ج) عالمی تجارتی تنظیم کے مقاصد لکھیے۔  
 (د) اوپیک اور آپیک تجارتی تنظیموں کے افعال کا فرق لکھیے۔  
 (ه) براعظم ایشیا کی اہم تجارتی تنظیموں کے افعال لکھیے۔  
 (و) کسانوں کے نقطہ نظر سے فروخت کاری کی اہمیت لکھیے۔

**سوال ۶۔ جدول میں چند ممالک کے ۲۰۱۳ء کی درآمدات و برآمدات کا تخمینہ دل لاکھ (ملین) ڈالر میں درج ہے۔ اس شاریاتی معلومات سے متصل ستونی ترسیم بنائیے۔ ستونی ترسیم کا بغور مطالعہ کر کے ان ممالک کے تجارتی توازن کے بارے میں مختصر لکھیے۔**

درآمدی قدر	برآمدی قدر	ملک
۱۹۲۰	۲۱۲۳	چین
۳۸۰	۲۷۲	بھارت
۲۳۱	۱۹۰	برازیل
۲۳۸۰	۱۵۱۰	ریاست ہائے متحدہ

**سرگرمی:** اپنے استاد کی مدد سے اور ان کی رہنمائی میں اپنی جماعت میں درج ذیل سرگرمی انجام دیجیے۔

کسی مصنوعات کا عمده اشتہار تیار کر کے جماعت میں اس کے تینیں زیادہ سے زیادہ پسندیدگی حاصل کیجیے۔



- سوال ۱۔ درج ذیل کے درمیان ہونے والی تجارت کی درجہ بندی کیجیے۔**
- (الف) مہاراشٹر اور پنجاب (ب) بھارت اور جاپان  
 (ج) لاسل گاؤں اور پونہ (د) چین اور کینیڈا  
 (ہ) بھارت اور یورپی یونین

**سوال ۲۔ درج ذیل بیانات کے لیے 'درآمدی یا برآمد' میں سے مناسب لفظ چن کر لکھیے۔**

- (الف) بھارت و سطحی مشرقی ایشیا کے ملکوں سے معدنی تیل خریدتا ہے۔  
 (ب) کینیڈا سے ایشیائی ملکوں کو فروخت کے لیے گیہوں بھیجا جاتا ہے۔  
 (ج) جاپان آپیک، ممالک کوشینی آلات بھیجا تا ہے۔

**سوال ۳۔ درج ذیل میں سے غلط بیان کو درست کر کے دوبارہ لکھیے۔**

- (الف) بھارت ایک خود کفیل ملک ہے۔  
 (ب) جس جگہ کسی شے کی پیداوار اضافی ہوتی ہے وہاں اس شے کی طلب نہیں ہوتی۔  
 (ج) مقامی تجارت کے مقابلے میں بین الاقوامی تجارتی سرگرمیاں سہل اور آسان ہوتی ہیں۔  
 (د) جنوب مشرقی ایشیائی ممالک میں معافی ترقی اور سماج و ثقافتی ہم آہنگی کے فروغ کے لیے سارک، تنظیم کام کرتی ہے۔
- سوال ۴۔ درج ذیل مثالوں میں تجارت کی اقسام پہچان کر لکھیے۔**

- (الف) سیمانے کرانہ دکان سے شکر خریدی۔  
 (ب) مہاراشٹر کے کسانوں سے سورت کے تاجروں نے کپاس خریدی۔